



سوال

ظہر کی قضاء نماز کی ادائیگی بوقت عصر

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی اب میں عصر کے ساتھ کیسے اور کتنی رکعات پڑھوں؟ کیا مجھے پوری ظہر کی نماز پڑھنی پڑھے گی۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جی ہاں آپ اگر مسافر نہیں ہیں تو آپ کو ظہر کی مکمل نماز ادا کرنی چاہئے۔ اور اگر مسافر ہیں تو صرف نماز قصر دو رکعات ہی کافی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ نماز ظہر نماز عصر سے پہلے پڑھی جائے گی، کیونکہ جمہور اہل علم کے نزدیک نمازوں میں ترتیب رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو نماز عصر کی جماعت مل جاتی ہے تو آپ ظہر کی نیت کر کے پہلے ظہر پڑھ لیں، پھر بعد میں نماز عصر پڑھیں۔

مزید تفصیل کے لئے دیکھیں فتویٰ نمبر (804) پر کلک کریں۔

حدا ما عنہم والیٰ علم بالصواب

فتویٰ کیٹیگری

محدث فتویٰ